





"اور تم سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔"

نیز فرمایا:

وَأَنْ بَدَأَ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصِيئَةٌ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... سورة الانعام ۱۵۳

"ابلاشبہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اس پر چلنا کیونکہ تم (ان پر چل کر) اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ پرہیزگار بنو۔"

ہم تمہیں وہی وصیت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے وصیت فرمائی ہے ہم اہل سنت کے ساتھ وابستگی کی وصیت کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جسے ان کے تصوف کے سلسلے والوں نے لہجہ دیا ہے جس میں بدعی اوراد غیر مشروعہ انکار اور شرکیہ دعائیں ہیں یا شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں مثلاً غیر اللہ سے استغاثہ مفرد اسماء کے ساتھ اس کا ذکر اور کلمہ آہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے نہیں ہے اسی طرح دعاء میں مشائخ کے ساتھ توسل اور مشائخ کے بارے میں یہ اعتقاد کہ وہ دلوں کے حالات سے آگاہ ہیں۔ دلوں کے مخفی بھید جلتے ہیں نیز ان کا اجتماعی طور پر ایک ہی آواز میں حلقوں میں ترنم کے ساتھ لہک لہک کر ذکر کرنا وغیرہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

بدام احمدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 38